

## Attempt ..... questions

- 1 Least count of vernier callipers is ورنیر کیلی پرز کالیسٹ کاؤنٹ ہوتا ہے 1  
 A. 0.01mm B.0.01cm C.1mm D.1cm
- 2 A student found the diameter of a wire as 1.032 mm with help of Screw Gauge. To what extent do you agree with him? ایک طالب علم نے سکر یوگیج سے کسی تار کا ڈایا میٹر 1.032mm معلوم کیا۔ آپ اس سے کس حد تک متفق ہیں۔ 2  
 (a) 1 mm (b) 1.0 mm (a) 1 mm (b) 1.0 mm  
 (c) 1.03 mm (d) 1.032 mm (c) 1.03 mm (d) 1.032 mm
- 3 Which is the smallest Quantity کوئی مقدار سب سے چھوٹی ہے۔ 3  
 A. 0.01g B.2mg C.100μg D.5000ng
- 4 Leastcount of screw guage is سکر یوگیج کالیسٹ کاؤنٹ ہے 4  
 A. 1cm B.0.001m C.0.01mm D.1mm
- 5 Amount of a substance in terms of number is measured in کسی شے میں مادہ کی مقدار معلوم کرنے کا یونٹ ہے 5  
 A. Gram گرام B.Kilogram کلوگرام C.Newton نیوٹن D.Mole مول
- 6 One Giga Gram is equal to ایک گیگا گرام برابر ہوتا ہے۔ 6  
 A.  $10^9$ g B. $10^6$ g C. $10^3$ g D. $10^{-6}$
- 7 It is Base Quantity بنیادی مقدار ہے 7  
 A. Distance فاصلہ B. Area ایریا C.Speed سپیڈ D.Force فورس
- 8 One micro meter is equal to ایک مائیکرو میٹر برابر ہوتا ہے 8  
 A.  $10^{-6}$  m B. $10^{-3}$  m C. $10^{-9}$  D. $10^3$  m